

PRESS RELEASE

For immediate release

September 14, 2023

SECP's Regulatory Sandbox shifts to "Always Open"

ISLAMABAD, September 14: In order to broaden outreach, the SECP has restructured its Regulatory Sandbox (RSB) from a cohort-based system to an open status, allowing applicants, including fintech and start-ups, to apply year-round. The applications will be received in three streams: Islamic finance, conventional finance, and women's-specific trades.

For the convenience of applicants, SECP has developed a comprehensive, self-explanatory application format and diagnostic tool. These formats are available at the Sandbox section of SECP's website.

Restructuring of the sandbox was required to reflect its maturity and the lessons learned in the three plus years of its operations. The always open status will ensure continuity in partnerships and allows applicants to approach the RSB at the right point in their development lifecycle.

Potential applicants can now test the suitability of their proposed model through the diagnostic tool, build an application based on a self-explanatory format, and submit it at any time to the dedicated email at sandbox@secp.gov.pk. After undergoing a comprehensive evaluation, the applicants can be allowed to test their solutions for a period of six to nine months in a controlled environment. The Commission's terms and conditions will apply.

Launched in 2019, the RSB is in its fourth year of operations. During this period SECP received immense response from a wide range of innovators including well established entities, foreign companies, start-ups and Fintech. To date 128 applications have been received in the four cohorts announced. The most recent Cohort IV accepted application in May-June of this year. Out of the 26 applications received in fourth cohort, SECP has allowed eleven applicants to test. The participants will start the six-month testing period from December 01, 2023.

The SECP has also published RSB Position Paper 2023, on its website, sharing experiences and learnings from its Regulatory Sandbox project for the benefit of potential participants. The paper also encapsulates the journey of the second cohort participants and details of their testing methodology, performance and learning outcomes. SECP believes that testing of technology driven solutions through RSB can stimulate financial and technological innovation and broaden the range of financial products in the financial services market.

ایس ای سی پی نے ریگولیٹری سینڈ باکس کا دائرہ وسیع کر دیا؛ سارا سال درخواستیں وصول کی جائیں گی

اسلام آباد (14 ستمبر) سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اپنے ریگولیٹری سینڈ باکس کو ہمہ گیر بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے اسے ری اسٹر کچر کر دیا ہے۔ سینڈ باکس فن ٹیک اور چھوٹی کمپنیوں کے لیے سال بھر کھلا رہے گا جبکہ تین شعبوں جن میں اسلامی مالیات، روایتی فنans اور خواتین کے سٹارٹ اپ ایریاز میں درخواستیں موصول کی جائیں گی۔

سینڈ باکس میں شامل ہونے کے لئے درخواست کا جامع فارمٹ بہ جانچ کے طریق کار اور اہلیت کی دستاویز، کمیشن کی ویب سائٹ کے سینڈ باکس کے سیگمنٹ میں دستیاب ہیں۔ ایس ای سی پی کا ریگولیٹری سینڈ باکس کمپنیوں اور سٹارٹ اپز کو ایک موزوں اور کنٹرول ریگولیٹری ماحول فراہم کرتا ہے جس میں جدید مالیاتی مصنوعات، خدمات، طریقہ کار اور کاروباری ماڈلز کے محدود پیمانے پر لائیو ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔

اس سے قبل سینڈ باکس میں شامل ہونے کے لئے درخواستیں سال میں ایک بار وصول کی جاتیں تھیں۔ ریگولیٹری سینڈ باکس کے سارا سال کھلا رہنے سے سینڈ باکس کے دائرہ میں وسعت آئے گی اور سٹارٹ اپز کے تسلسل کو یقینی بنائے گی۔ سینڈ باکس میں شمولیت کے خواہشمند اپنے کاروباری منصوبے کے لائف سائیکل کے دوران صحیح مقام پر ریگولیٹری سینڈ باکس میں شمولیت کے لئے درخواست دے سکیں گے۔ درخواست گزار مجوزہ ماڈل درخواست فارم اور جانچ کے طریق کار کے ذریعے درخواست ترتیب دے کر کسی بھی وقت ای میل sandbox@secp.gov.pk پر جمع کروا سکتے ہیں۔

ایس ای سی پی کا ریگولیٹری سینڈ باکس 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس عرصے کے دوران سینڈ باکس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور سینڈ باکس میں کئی غیر ملکی کمپنیوں اور اسٹارٹ اپس اور فنڈٹیک نے جدید ماڈل کو کامیابی کے ساتھ چلایا اور منظوری حاصل کی۔

